

## FITNESS RULES NOTICE / اہلیت کے قوانین کا نوٹس

براہ کرم اپنی درخواست جمع کروانے سے پہلے توجہ سے پڑھ لیجیے

TLC نے لائسنس کی درخواست دینے کے طریقہ کار میں قوانین کی کچھ تبدیلیاں کی ہیں۔ قوانین میں ایک (1) اور تین (3) سال کے لئے درخواست کی پابندی شامل ہے جس کا انحصار درخواست کنندہ کے TLC اور DMV کے ماضی پر ہے۔

براہ کرم نوٹ کیجیے کہ اگر TLC کا عملہ اس بات کا تعین نہ کر سکا یا تعین کرنے میں ناکام رہا کہ جب کوئی درخواست جمع کروائی جائے گی تو وہ اسی وقت مسترد ہوجائے گی، اور یہ کہ درخواست قبول کر لی جائے گی، تو لائسنس کی درخواست دینے کی فیس واپس نہیں کی جائے گی۔ کسی درخواست دہندہ کو اپنی درخواست جمع نہیں کروانی چاہیے اگر درخواست دہندہ کا TLC یا DMV کا ماضی اس تفصیل کے مطابق ہو جو اہلیت کے قوانین کے نوٹس میں فہرست شدہ ہے۔

### ایک (1) سال کی پابندی - (اگر گزشتہ سال کے دوران)

- \* ایک سال کے اندر تین (3) سے زیادہ ٹریفک کے حادثات ہوئے ہوں۔ آخری حادثے کی تاریخ سے ایک (1) سال کی پابندی کو شمار کیا جائے گا۔
- \* موٹر گاڑی کو بغیر لائسنس چلانے کی ٹریفک خلاف ورزی۔
- \* پہلے کی درخواست مسترد شدہ۔ صدر نشین کسی ایسی درخواست کی ممانعت کرے گا جو سابقہ درخواست کے جمع کروانے کے بعد ایک سال کے اندر جمع کروائی گئی ہو، اگر سابقہ درخواست کی ممانعت اس لئے کی گئی ہو کہ درخواست دہندہ کو لائسنس رکھنے کا اہل نہ پایا گیا ہو۔ ایک سال کی پابندی کا شمار سابقہ درخواست کو کمیشن کے پاس جمع کروانے کی تاریخ سے کیا جائے گا۔
- \* TLC کی جانب سے درکار منشیات کے ٹیسٹ کے مثبت نتیجے کے ذریعے متعین کردہ منشیات کے غلط استعمال اور جہاں منشیات کے ٹیسٹ کے نتیجے کو چیلنج نہ کیا گیا ہو یا چیلنج کرنے میں ناکامی کا سامنا ہوا ہو۔ ایک (1) سال کی پابندی منشیات کے ٹیسٹ میں ناکامی کی تاریخ سے شروع ہو گی۔

### تین (3) سال کی پابندی - (اگر گزشتہ تین سالوں کے دوران)

- \* جیسا کہ TLC کے لائسنس یافتہ گاڑی کو چلانے کے ان قوانین کے ذریعے ممنوع ہے، کوئی بھی ایسا عمل جو نشہ آور مشروب (الکحل کی مقدار سے قطع نظر)، یا منشیات کی وجہ سے صلاحیت کو متاثر کرتا ہو۔
- \* جیسا کہ TLC کے قوانین کی جانب سے ممنوع ہے، رشوت، فراڈ، غلط مالی نمائندگی، چوری، کسی شخص کو دھمکی دینا، براساں کرنا، بد سلوکی، یا جسمانی جبر کا استعمال کا کوئی بھی عمل۔
- \* TLC کے قوانین کے مطابق ممنوع شدہ طور پر، TLC کی جانب سے لائسنس شدہ گاڑی میں اسلحہ رکھنے کا کوئی عمل۔
- \* سابقہ لائسنس کی منسوخی۔ اگر اس دوران جب لائسنس کی منسوخی کے اخراجات باقی رہتے ہوں، تو کسی سابقہ لائسنس کی معیاد ختم ہو جائے یا چیئر پرسن کو دست بردار کر دیا جائے۔
- \* لائسنس کی منسوخی کے اخراجات زیر التواء رہنے کے دوران دست برداری۔ Critical Driver Program / ڈرائیور کے اشد ضروری پروگرام اور Persistent Violator Program / مسلسل خلاف ورزی کے حاملین کا پروگرام کی منسوخیوں پر خصوصی غور و فکر۔ ڈرائیور کے اشد ضروری پروگرام اور مسلسل خلاف ورزی کے طلبی کے احکامات کے شائع ہونے کی تاریخ سے کم از کم ایک (1) سال بعد، کوئی درخواست دہندہ صدر نشین سے تین سالہ پابندی سے دست برداری کی درخواست کر سکتا ہے۔ یہ درخواست صرف اس وقت کی جا سکتی ہے جب درخواست دہندہ کی ڈرائیونگ کا ریکارڈ خلاف ورزیوں کے لئے تین نکات سے زیادہ کی عکاسی نہ کرتا ہو جو دست برداری کے لئے درخواست کی تاریخ کے بعد سے تین سال کی مدت کے دوران واقع ہوئے ہوں۔
- \* لائسنس کی منسوخی کی فیس بقایا ہونے کی صورت میں لائسنس کی معیاد کا اختتام۔ جب لائسنس کی منسوخی کے اخراجات بقایا رہنے کے دوران کسی سابقہ لائسنس کی معیاد ختم ہو گئی ہو، تو لائسنس کی معیاد ختم ہونے کی تاریخ سے تین (3) سال کی پابندی کا آغاز ہوگا۔

### مندرجہ ذیل اسباب کے لئے بھی کسی درخواست کی ممانعت کی جا سکتی ہے:

- \* درخواست میں ہونے والی غلطی یا غفلت۔ اگر درخواست میں کوئی اہم غلطی یا غفلت شامل ہو، یا اگر درخواست دہندہ، درخواست میں کسی اہم تبدیلی کے بارے میں چیئر پرسن کو مطلع کرنے میں ناکام رہتا ہے۔
- \* ڈرائیور کے اشد ضروری پروگرام (Critical Driver Program): اگر آپ نے اپنے سب سے تازہ ترین DMV پوائنٹ کے اثبات جرم سمیت اور اس سے پہلے 15 ماہ کے اندر 6 یا زیادہ پوائنٹس اکٹھے کر چکے ہیں، تو اگر آپ لائسنس یافتہ ہیں، تو ڈرائیور کے اشد ضروری پروگرام کے تحت، آپ لائسنس کی معطلی یا منسوخی کا سامنا کر سکتے ہیں؛ اسی لئے، آپ کی درخواست مسترد کر دی جائے گی۔
- \* زیر غور مجرمانہ الزامات۔ چیئر پرسن درخواست پر غور و فکر کو منسوخ کر سکتا ہے اگر درخواست دہندہ کے خلاف مجرمانہ الزامات زیر التوا ہوں۔ اگر درخواست جمع کروانے کے بعد 90 دنوں کے اندر الزامات حل نہیں ہوتے تو، درخواست کو مسترد کر دیا جائے گا۔